



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Italiano, Inglese, Francese, Albanese,  
Russo, Cinese, Punjabi, Urdu, Arabo

**DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
SANITARIO NAZIONALE (SSN)**

**DOCUMENTS FOR REGISTRATION UNDER THE  
NATIONAL HEALTH SERVICE (SSN)**

**DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'INSCRIPTION  
AU SERVICE NATIONAL DE SANTÉ**

**DOKUMENTA PËR REGJISTRIMIN NË  
SHËRBIMIN SANITAR KOMBËTAR**

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ  
РЕГИСТРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

如何办理国家公费医疗卡

ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਏਸਏਸਏਨ) ਦੇ  
ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

نیشنل ہیلتھ سروس  
کے تحت رجسٹریشن کیلئے دستاویزات:

الأوراق اللازمة للتسجيل في الخدمة الصحية المحلية

## DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

### Se sei un cittadino extracomunitario

devi presentare questi documenti:

- Permesso di soggiorno in originale o la ricevuta dell'ufficio postale in originale, insieme alla copia dei documenti che hai usato per la richiesta del permesso di soggiorno o copia dei documenti che ti hanno dato allo sportello Unico per l'Immigrazione;
- Certificato di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o autocertificazione;
- Tessera sanitaria scaduta e, se lo hai, permesso di soggiorno scaduto;
- Copia Contratto di lavoro, nei casi in cui nei documenti che presenti non è specificato il motivo del soggiorno.

### Se sei un cittadino comunitario LAVORATORE

devi presentare questi documenti:

#### Se sei dipendente

- Contratto di lavoro;
- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa);

#### Se sei autonomo

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un altro Albo Professionale;
- Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS;
- Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa).

### Se sei un cittadino comunitario PENSIONATO

devi presentare questi documenti:

- Se stai aspettando la pensione estera il Modello E120;
- Se sei già in possesso di pensione estera il Modello E121;

Se il tuo è un caso particolare, agli sportelli SAUB gli operatori ti possono aiutare. Se non parli bene italiano puoi chiedere all'operatore di chiamare una mediatrice della tua lingua.

## DOCUMENTS FOR REGISTRATION UNDER THE NATIONAL HEALTH SERVICE (SSN)

### **If you are not an EU citizen**

you will need the following documents :

- Your original residence permit or original Post Office receipt, plus a copy of the documents you used when you requested your residence permit or a copy of the documents you were given at the Immigration Office;
- Certificate of residence or a declaration of effective residence, or self-certification;
- Your expired national health card and, if possible, your expired residence permit;
- A copy of your employment contract if your official document does not state the reason for your stay.

### **If you are a WORKING member of the EU**

you will need the following documents:

#### **If you are an employee**

- Your employment contract;
- Certification issued by the Council House stating that you have applied to the Registry Office (optional);

#### **If you are self-employed**

- Certificate of registration at the Chamber of Commerce or other professional body;
- Evidence of VAT No. or INPS (Italian National Social Welfare Institution) number;
- Certification issued by the Council House stating that you have applied to the Registry Office (optional);

### **If you are a RETIRED EU citizen**

you will need the following documents:

- If you are waiting for your foreign pension: Form E120;
- If you are already drawing your foreign pension: Form E121;

If you do not fit into these categories, the SAUB (basic joint administration service) desk staff will assist you.

If you have difficulty with the Italian language, you can ask for someone to interpret for you.

# DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L'INSCRIPTION AU SERVICE NATIONAL DE SANTÉ

## **Si vous êtes un citoyen extra-communautaire,**

vous devez présenter les documents suivants :

- Le permis de séjour original ou le récépissé du bureau postal original, ainsi que la copie des documents que vous avez fournis pour votre demande de permis de séjour ou la copie des documents qui vous ont été remis au Guichet Unique pour l'Immigration ;
- Un certificat de résidence ou une déclaration de domicile ou encore une autocertification ;
- Votre carte d'assurance maladie périmée et, si vous l'avez, votre permis de séjour périmé ;
- Une copie de votre contrat de travail, pour les cas où le motif de votre séjour n'est pas précisé sur les documents présentés.

## **Si vous êtes un citoyen communautaire TRAVAILLEUR,**

vous devez présenter les documents suivants :

### **Si vous êtes salarié**

- Votre contrat de travail ;
- Une attestation d'état civil délivrée par votre Mairie (facultative) ;

### **Si vous êtes travailleur indépendant**

- Un certificat d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés ou à tout autre registre professionnel ;
- Une attestation d'inscription au registre de la TVA ou de l'INPS (Institut National de Prévoyance Sociale) ;
- Une attestation d'état civil délivrée par votre Mairie (facultative) ;

## **Si vous êtes un citoyen communautaire RETRAITÉ,**

vous devez présenter les documents suivants :

- Si vous êtes en attente d'une retraite de l'étranger, le formulaire E120 ;
- Si vous percevez déjà une retraite de l'étranger, le formulaire E121 ;

Si votre cas est un cas particulier, les agents des guichets SAUB (Structure Administrative Unifiée de Base) peuvent vous aider.

Si vous ne parlez pas bien italien, vous pouvez demander à l'agent d'appeler un médiateur qui parle votre langue.

# DOKUMENTA PËR REGJISTRIMIN NË SHËRBIMIN SANITAR KOMBËTAR

## **Në qoftë se je një qytetar jo-komunitar**

duhet të paraqitësh këto dokumenta:

- Lejeqëndrimin origjinal ose kuponin origjinal të zyrës postare, së bashku me kopjen e dokumentave që ke përdorur për kërkesën e lejeqëndrimit ose kopjen e dokumentave që të kanë dhënë në sportelin Unik për imigrimin;
- Çertifikatën e rezidencës ose deklaratën për vendbanimin efektiv ose një auto-certifikatë;
- Teserën sanitare të skaduar dhe, në qoftë se e ke, lejeqëndrimin e skaduar;
- Kopjen e Kontratës së punës, në rast se në dokumentat që paraqet nuk është i specifikuar motivi i qëndrimit në Itali.

## **Në qoftë se je një qytetar komunitar PUNËTOR:**

duhet të paraqitësh këto dokumenta:

### **Në qoftë se je punëtor vartës**

- Kontratën e punës;
- Vërtetimin për kërkesën e regjistrimit në gjendjen civile që lëshohet nga Komuna (fakultative);

### **Në qoftë se punëtor autonom**

- Çertifikatën e regjistrimit në Dhomën e Tregtisë (Camera di Commercio) ose në një Regjistër tjetër Profesional;
- Vërtetimin e hapjes së TVSH - (Numri i identifikimit të ndërmarrjes - Partita IVA) ose hapjen e një pozicioni INPS;
- Vërtetim për kërkesën e regjistrimit në gjendjen civile që lëshohet nga Komuna (fakultative);

## **Në qoftë se je një qytetar komunitar PENSIONIST:**

duhet të paraqitësh këto dokumenta:

- Në qoftë se je duke pritur pensionin nga jashtë shtetit, formularin Modello E120;
- Në qoftë se merr pension nga jashtë shtetit, formularin Modello E121;

Në qoftë se rasti yt është i veçantë, në sportelet SAUB operatorët do të japin ndihmën e duhur.

Në qoftë se nuk flet mirë italisht mund t'i kërkesësh operatorit që të thërrasë mediatorin (përkthyesin) në gjuhën tënde.

## **ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:**

**Граждане стран-нечленов Евросоюза** должны представить следующие документы:

- Оригинал вида на жительство или оригинал квитанции почтового отделения, а также копии документов, которые подавались при запросе вида на жительство или копии документов, которые были выданы в Объединенном бюро по делам иммиграции;
- Справку о месте проживания или заявление о фактическом месте проживания или самостоятельно составленное и подписанное заявление;
- Медицинскую карточку с истекшим сроком действия или, если имеется, вид на жительство с истекшим сроком действия;
- Копию трудового договора в случае, если в предоставляемых документах не указан мотив пребывания.

**РАБОТАЮЩИЕ граждане стран-членов Евросоюза**

должны представить следующие документы:

### **НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ**

- Трудовой договор;
- Справку о заявке на регистрацию в бюро учета населения, выданную Коммуной (необязательно);

### **ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

- Справку о регистрации в Торговой Палате или в другой профессиональной ассоциации;
- Справку о присвоении номера налоговой регистрации или справку о регистрации в Государственном Управлении Социального Обеспечения;
- Справку о заявке на регистрацию в бюро учета населения, выданную Коммуной (необязательно);

**ПЕНСИОНЕРЫ**, являющиеся гражданами стран-членов Евросоюза, должны представить следующие документы:

- Граждане, ожидающие пенсию, которую будет выплачивать иностранное государство – Форму (Modello 120);
- Граждане, уже получающие пенсию, выплачиваемую иностранным государством - Форму (Modello 121).

В особых случаях вам помогут работники отделений SAUB. Если вы плохо говорите по-итальянски, то вы можете попросить работника SAUB вызвать посредника, говорящего на вашем языке.

# 如何办理国家公费医疗卡

如果你是非欧共同体外国公民，在办理医疗卡时，你需要出示以下的文件证明：

- 居留证原件或从邮局寄发的申请延期居留文件的寄件回单及其附有申请延期居留的文件或移民服务窗口提供的各种文件复印件复印件；
- 在当地市政府户籍处登记注册的证明地或现居住地址声明或自我申报地址证明；
- 以前曾经办理的过期医疗卡（如果你曾有过的情况下），过期的居留证；
- 如提交的居留证明没有具体说明留在意大利的原因目的时，则需要出示一份工作合同。

如果你是欧洲共同体公民外国劳工，在办理医疗卡时请出示以下证明：

如果你是雇员

- 工作合同；
- 市政府户籍登记注册处发放的证明（可选择性的，既非强制性）；

如果你是自主经营者

- 商会 登记注册的文件或在专业职业注册单；
- 开立的增值税，证明或在，登记证明；
- 市政府户籍登记注册处发放的证明（可选择性的，既非强制性）；

如果你是欧洲共同体的退休公民，则应该出示以下证件：

- 正在办理等待国外退休手续时，请Modello E120；
- 如果你已经了，请出示拥有的 Modello E121；

当你处于的情况比较特殊时，请直接与 SAUB 服务窗口的工作人员联系，我们将尽可能地帮助你。如你不懂意大利语，可以要求工作人员帮你叫一位你的母语翻译来帮助你。

# ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਏਸਏਸਏਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋਪਿਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਨਾਗਰਿਕ) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ  
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

-ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰਸੀਦ, ਇਸ ਦੇ ਨ  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ  
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ;

-ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਇਫੇਕਟਿਵ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣਪਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  
ਤਿਆਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੇਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ;

-ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਂ  
ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ;

-ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ  
ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਊ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ  
ਹੋਵੇਗੀ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਂ

-ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾਰ;

-ਕਾਊਂਸਿਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਪਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿਤੀ ਹੋ  
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ

-ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ  
ਪ੍ਰਮਾਣਪਤਰ;

-ਵੀਏਟੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਆਈਏਨਪੀਏਸ (ਇਟਾਲਿਅਨ ਨੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵੇਲਫੇ  
ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ) ਨੰਬਰ;

-ਕਾਊਂਸਿਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ  
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਅਰ ਈਊ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ



## (SSN) کے تحت رجسٹریشن کیلئے دستاویزات: نیشنل ہیلتھ سروس

اگر آپ یورپین یونین کے شہری نہیں ہیں تو آپ کو درج ذیل دستاویزات کی ضرورت ہوگی:

- آپ کا اصل رہائشی اجازت نامہ یا پوسٹ آفس کی اصل رسید، مع ان دستاویزات کی ایک نقل جس کا استعمال آپ نے اپنے رہائشی اجازت نامی درخواست کیلئے کیا تھا یا ان دستاویزات کی نقل جو آپ کو امیگریشن آفس میں دیے گئے تھے؛

- رہائشی سند یا مؤثر قیام کا اعلامیہ، یا خود سے اس کی تصدیق؛

- آپ کا ختم ہو چکا صحت کا قومی کارڈ، اور اگر ممکن ہو تو، آپ کا ختم ہو چکا رہائشی اجازت نامہ؛

- اگر آپ کے باضابطہ دستاویز میں آپ کے قیام کی وجہ بیان نہیں کی گئی ہو تو آپ کے ملازمت کے معاہدے کی ایک کاپی۔

اگر آپ یورپین یونین کے کارگزار رکن ہیں تو آپ کو درج ذیل دستاویزات کی ضرورت ہوگی:

- اگر آپ ملازم ہیں

- آپ کی ملازمت کا معاہدہ؛

- کونسل ہاؤس کے ذریعہ جاری کردہ سند جس میں اس بات کا بیان ہو کہ آپ نے رجسٹری آفس میں درخواست دی ہے (اختیاری)؛

- اگر آپ کا اپنا روزگار ہے

- چیمبر آف کامرس یا دیگر پیشہ وارانہ ادارے میں رجسٹریشن کی سند؛

- VAT نمبر یا INPS (ائالین نیشنل سوشل ویلفیئر انسٹی ٹیوشن) نمبر؛

- کونسل ہاؤس کے ذریعہ جاری کردہ سند جس میں اس بات کا بیان ہو کہ آپ نے رجسٹری آفس میں درخواست دی ہے (اختیاری)؛

اگر آپ یورپی یونین کے سبکدوش شہری ہیں تو آپ کو درج ذیل دستاویزات کی ضرورت ہوگی:

- اگر آپ اپنے غیر ملکی پنشن کا انتظار کر رہے ہیں: فارم E120؛

- اگر آپ پہلے سے ہی اپنی غیر ملکی پنشن حاصل کر رہے ہیں فارم E121؛

اگر آپ ان زمروں میں نہیں آتے تو SAUB (بیسک جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو سروس) ڈیسک کا عملہ آپ کی مدد کرے گا۔

اگر آپ کو اطالوی زبان میں دشواری ہے تو، آپ کسی سے اپنے لیے ترجمانی کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔

## الأوراق اللازمة للتسجيل في الخدمة الصحية المحلية

إذا لم تكن من مواطني دول الإتحاد الأوروبي يجب عليك تقديم هذه الأوراق:

- تصريح الإقامة، النسخة الأصلية أو أصل إيصال مكتب البريد، بالإضافة إلى نسخة من الأوراق التي استخدمتها من أجل طلب تصريح الإقامة أو نسخة من الأوراق التي سلموها إليك في المنفذ الأوحده للهجرة؛
- شهادة الإقامة أو إقرار الإقامة الفعلية أو إقرار طوعي.
- البطاقة الصحية المنتهية، وتصريح الإقامة المنتهي إذا كان بحوزتك.
- نسخة من عقد العمل، وذلك في الحالات التي لا يتحدد فيها سبب الإقامة في الأوراق التي تقدمها.

إذا كنت مواطن عامل من إحدى دول الإتحاد الأوروبي يجب عليك تقديم هذه الأوراق:

- إذا كنت موظف
- عقد العمل؛
- شهادة طلب التسجيل في السجل المدني محررة من المجلس المحلي (اختياري)؛
- إذا كنت مستقلاً
- شهادة التسجيل في غرفة التجارة أو في أي سجل مهني آخر؛
- شهادة فتح سجل ضريبة القيمة المضافة أو فتح سجل لدى المركز القومي للتأمين الاجتماعي؛
- شهادة طلب التسجيل في السجل المدني محررة من المجلس المحلي (اختياري)؛

- إذا كنت مواطن متقاعد من إحدى دول الإتحاد الأوروبي يجب عليك تقديم هذه الأوراق:
- إذا كنت في انتظار التقاعد من دولة أجنبية قم بسحب الاستمارة E120؛
- إذا كنت متقاعد بالفعل طبقاً للدولة الأجنبية قم بسحب الاستمارة E121؛

إذا كانت حالتك خاصة فإن العاملين في منافذ خدمات (SAUB) يمكنهم مساعدتك.

إذا كنت لا تتحدث الإيطالية جيداً يمكنك أن تطلب من الموظف أن يستدعي وسيط لغوي يتحدث بلغتك.

## INDIRIZZI SEDI

### SAUB

#### **Brescia**

ex Ospedale di Brescia  
Via Aldo Moro 2  
42041 Brescia  
0522 962920

#### **Castellarano**

Via Roma, 57  
42014 Castellarano  
0536 850135

#### **Castelnovo di Sotto**

Via Conciliazione, 16  
42024 Castelnovo di Sotto  
0522 681732

#### **Castelnovo ne' Monti**

Via Roma, 2  
42035 Castelnovo ne' Monti  
0522 617116

#### **Correggio**

via Circondaria, 26  
42015 Correggio  
0522 630207

#### **Guastalla**

Via Donatori di Sangue 1  
42016 Guastalla  
0522 837623

#### **Montecchio**

##### **Emilia**

via Barilla 16  
42027 Montecchio  
Emilia  
0522 860217

#### **Novellara**

Via Costituzione  
12  
42017 Novellara  
0522 753775

#### **Reggio Emilia**

Via Amendola, 2  
42100 Reggio  
Emilia  
0522 335503  
da lun a sab:  
8.30-9.30

#### **Rubiera**

Via De Gasperi  
42048 Rubiera  
0522 339010

#### **Scandiano**

Via Vallisneri, 41  
42019 Scandiano  
0522 850390

U.R.P.

## UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

P.R.O

## PUBLIC RELATIONS OFFICE

U.R.P.

## SERVICE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

### **Castelnuovo Monti Ospedale S. Anna**

Via Roma, 2  
dal lunedì al sabato  
dalle ore 8.00 alle 13.00  
tel. 0522 617173  
fax 0522 617118

### **Correggio Palazzina Poliambulatori**

Via Mandriolo Superiore 11  
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.15 alle ore 13.00,  
il sabato dalle ore 8.15  
alle 12.30  
tel. 0522 630211  
fax 0522 630331

### **Guastalla Ospedale Civile**

dal lunedì al sabato  
dalle ore 9.00 alle 12.00  
tel. 0522 837344  
fax 0522 837598

### **Montecchio Ospedale Franchini**

Dal lunedì al venerdì  
9.00 - 12.00  
tel. 0522 860205/860341  
fax 0522 860363

### **Reggio Emilia Poliambulatorio,**

Viale Monte San Michele 8  
dal lunedì al sabato  
dalle ore 8.00 alle 13.00  
tel. 0522 335168  
fax 0522 335744

### **Scandiano Ospedale Magati**

Via Martiri della Libertà 6  
dal lunedì al sabato  
dalle ore 8.00 alle 12.00  
tel. 0522 850400  
fax 0522 850414